

Translation into English

<sup>African thinker</sup> African's thinker told that when  
britishers came in Africa, then  
they had advancement and ~~we~~  
~~we~~ we had earth. He told that  
se <sup>came to</sup> give you advancement. we  
closed our eyes. When we opened  
<sup>our</sup> eyes. we had technology and  
they had our land ~~at~~ however, when  
social media website came, then  
they had social media websites.  
They told that this is free.  
we closed our eyes and when  
~~we~~ we opened our eye, we  
had facebook and whatsapp and  
they had our personal information  
and freedom. Hence, <sup>a</sup> Anything  
which is free then we have  
to pay our freedom for it!

Aviid cutting

Q.7. Translate the following into English, keeping in view the idiomatic/figurative expression. (10)

افریقہ کے مفکر نے ایک بار کہا تھا جب انگریز افریقہ آئے تو ان کے پاس جدت تھی اور ہمارے پاس زمین۔ وہ کہنے لگے کہ ہم یہاں آپ کو ترقی دینے آئے ہیں۔ ہم نے آنکھیں بند کر لیں۔ جب آنکھ کھلی تو ہمارے پاس جدت تھی اور ان کے پاس ہماری زمین۔ اسی طرح جب سوشل نیٹ ورک سائنس آئی، تو ان کے پاس فیس بک اور واٹس ایپ تھے۔ انہوں نے کہا یہ مفت ہے۔ ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور جب آنکھ کھلی تو ہمارے پاس فیس بک اور واٹس ایپ تھے اور ان کے پاس ہماری آزادی اور ذاتی معلومات۔ پس جب بھی کوئی چیز مفت ہوتی ہے تو ہمیں اپنی آزادی دے کر اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے...!

Best of Luck for CSS2025